



آپ صرف اسی صورت میں آسٹریلیا واپس لوٹ سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کے تعلیمی ادارے نے ایک منظور شدہ بین الاقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے کے تحت نامزد کیا ہے۔

ابتدائی طور پر، بین الاقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے والے طلباء کی واپسی کو ترجیح دیں گے تاکہ وہ واپس لوٹ کر اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ اس میں آخری سال میں زیر تعلیم طلباء جنہیں پریکٹل پلیسمنٹ مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے ریسرچ طلباء بھی شامل ہیں۔

طلباء کی نامزدگی

ریاستی یا علاقائی حکومتیں یہ طے کرتی ہیں کہ کون سے تعلیمی ادارے اور کون سے طلباء ایک بین الاقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں واپس لوٹنے والے طلباء کے لیے سفر اور قرنطینہ کے انتظامات کرنا بھی شامل ہے۔

تعلیمی ادارے ہی ایسے بین الاقوامی طلباء کی نشاندہی کریں گے جو کسی منظور شدہ منصوبے کے تحت آسٹریلیا واپس جانے کے اہل ہوسکتے ہیں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس ضمن میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے کہ آیا آپ کو کسی بین الاقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے میں شامل کیا جاسکتا ہے یا نہیں، آپ کو اپنے تعلیمی ادارے سے رابطہ کرنا چاہئے۔ آپ کا تعلیمی ادارہ اس ضمن میں مزید مشورے فراہم کر سکتا ہے اور اگر آپ کو واپس لوٹنے کی منظوری دی جاتی ہے تو یہی آپ کو اطلاع بھی دے گا اور ایک سفری استثنیٰ فراہم کرے گا۔

اسٹوڈنٹ ویزا یا سفری استثنیٰ کے لئے درخواست نہ دیں اور نہ ہی آسٹریلیا کا سفر کرنے کی کوشش کریں جب تک کہ آپ کا تعلیمی ادارہ آپ کو یہ اطلاع نہ دے کہ آپ کو نامزد کیا گیا ہے اور آپ کسی منظور شدہ منصوبے کے تحت واپس لوٹ سکتے ہیں۔ آپ آسٹریلیا میں اس وقت لاگو سفری پابندیوں سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

ویزا

بین الاقوامی طلباء کی واپسی کے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کے پاس ایک درست [اسٹوڈنٹ \(ذیلی کلاس 500\) ویزا](#) ہونا چاہئے۔ محکمہ واپسی کے عمل کے ایک حصے کے طور پر اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ترجیحی کارروائی کی سہولت فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ [موجودہ کارروائی کے لیے درکار اوقات](#) کے لیے ہماری ویب سائٹ چیک کریں۔

اگرچہ آسٹریلیا میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی کم سے کم ویزا کی معیاد درکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے آسٹریلیا کے سفر میں تاخیر کی صورت میں آپ کے ویزا میں کافی وقت بچا ہونا چاہئے۔ آپ ویزا کے بغیر اپنی طے شدہ پرواز پر سوار نہیں ہوسکتے ہیں۔

اپنے ویزا کی تفصیلات دیکھنے کرنے کے لیے، ملاحظہ کریں [ویزا کے استحقاق کی توثیق آن لائن \(VEVO\)](#)۔

اگر آپ اپنے موجودہ اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا کا سفر کرتے ہیں، اور آپ نے بیرون ملک سے ایک نئے ویزا کے لیے درخواست جمع کروائی ہے جس پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے تو، آپ بریجنگ ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ آپ [ImmiAccount](#) کے ذریعہ بریجنگ ویزا کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔

اگر آپ آسٹریلیا میں مزید اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو، آپ کے لیے عمومی [اہلیت کے تقاضوں](#) کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ [ImmiAccount](#) کے ذریعے ایک نئے اسٹوڈنٹ ویزا کی درخواست کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

سفری استثنیٰ

کسی منظور شدہ بین الاقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے کے تحت آسٹریلیا واپس جانے کے لئے نامزد کئے گئے بین الاقوامی طلباء آسٹریلیا میں اس وقت لاگو سفری پابندیوں سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

آپ کو آسٹریلیا کا سفر کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک سفری استثنیٰ کی ضرورت ہوگی۔ بین الاقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے کے ساتھ وابستہ سفری استثنیٰ حاصل کرنے کے طریقہ کار سے متعلق مزید تفصیلات اگلے چند ہفتوں میں دستیاب کرائی جائیں گی۔ براہ کرم اندرونی سفری استثنیٰ کے لئے درخواست نہ دیں جب تک کہ ایسا کرنے کے لیے نہ کہا جائے۔

آسٹریلیا ٹریول ڈیکلیریشن

آپ کو آسٹریلیا کے لئے روانہ ہونے سے کم از کم 72 گھنٹے پہلے ایک آن لائن [آسٹریلیا ٹریول ڈیکلیریشن](#) کا فارم مکمل پُر کرنا ہوگا۔

آسٹریلیائی سفری اعلامیہ آسٹریلیا میں آپ کے رابطے کی تفصیلات، پرواز کی تفصیلات، قرنطینہ کی ضروریات اور صحت کی حالت جیسی معلومات جمع کرتا ہے۔

جیسے ہی آپ ڈیکلیریشن کو مکمل پُر کر لیں گے، آپ کو ایک تفصیلات والی ای میل موصول ہوگی جسے آپ اپنی پرواز میں سوار ہونے سے پہلے اور آسٹریلیا آمد پر دکھا (الیکٹرانک طور پر یا پرنٹ کر کے) سکتے ہیں۔

ویزا کی شرائط

آپ کے پاس اپنی پڑھائی کی مدت کے دوران اپنی کفالت کرنے کے لیے خاطر خواہ رقم ہونی چاہئے۔ آپ آسٹریلیائی حکومت کی مالی امداد کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔

موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر آپ کے لیے آسٹریلیا میں پارٹ ٹائم کام تلاش کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ [اپنے ویزا کے مطابق](#) کام کی شرائط کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں۔

آپ کے اور آپ کے ہمراہ خاندان کے کسی بھی فرد کے لیے آسٹریلیا میں اپنے قیام کی مدت کے دوران [مناسب ہیلتھ انشورنس](#) ہونا اور اسے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ طلباء ایک منظور شدہ آسٹریلیائی ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے والے کی جانب سے [بیرون ملک مقیم طلباء کا ہیلتھ کور \(OSHC\)](#) کے ذریعے کور ہونے چاہئیں، ایک منظور شدہ آسٹریلیائی صحت انشورنس فراہم کنندہ سے، سوائے اس کے کہ کوئی [استثنیٰ](#) لاگو ہوتا ہے۔